

4226 - مسلمان ک 1740#& ب 1740#& و 1740#& اسلام لانے کے بعد بھ 1740#& ; ہندو مذہب پر عمل پ 1740#& ; را ہے

سوال

ایک برس قبل میں نے ایک ہندو عورت جس نے ظاہر تو یہی ہوتا تھا کہ اسلام قبول کر لیا ہے سے شادی کی لیکن شادی کے بعد یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس نے دین اسلام دلی طور پر قبول نہیں کیا اس لیے کہ وہ ابھی تک ہندو مذہب پر عمل پیرا ہے -

میرے لیے اسے طلاق دینا مشکل ہے کیونکہ ہم آپس میں ایک دوسرے کو خوب سمجھتے ہیں اور میں حسب استطاعت کوشش کر رہا ہوں کہ دلی طور پر اسلام قبول کر لے میرے خیال میں وہ میری بات تسلیم کر لے گی ، اب مجھ پر شرعا کیا واجب ہوتا ہے ؟

پسندیدہ جواب

الحمد لله.

الحمد لله

میں نے یہ سوال فضیلة الشيخ محمد بن صالح عثيمين رحمہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیا تو ان کا جواب تھا :

والصلاة والسلام على رسول الله : وبعد :

شائد آپ یہ خیال کرتے ہیں کہ جن اعمال پر وہ عمل کر رہی ہے وہ اسلام کے منافی نہیں ، اسے چاہیے کہ وہ سب سے پہلے تو اس (بیوی) کو یہ شعائر ترک کرنے کی دعوت دے اگر وہ قبول کرتے ہوئے ان پر عمل کرنا چھوڑ دیتی ہے تو یہی چیز مطلوب ہے -

اور اگر وہ ان پر عمل کرنا ترک نہیں کرتی تو خاوند اسے کہے کہ اگر تو ان پر عمل کرتی رہے گی تو ہمارے مابین نکاح قائم نہیں رہے گا ، یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اگر وہ عورت اس شادی کے قائم رہنے کی رغبت رکھتی ہو گی تو یہ چیز اسے اسلام قبول کرنے پر کی دعوت دے گی -

لیکن اگر وہ اس دھمکی کے باوجود اپنے دین پر قائم رہتی ہے تو پھر ان دونوں کے مابین نکاح نہیں اس وجہ سے خاوند کو چاہیے کہ وہ اسے علیحدگی اختیار کر لے -



والله تعالى اعلم ..